



سوال

نذر بھول جانے کا حکم

جواب

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمہ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

ذہن پر زور دیں اور ذہن سے محوشہ نذر کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر یاد آجائے تو ٹھیک ورنہ نذر کا کفارہ ادا کریں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ“ (صحیح مسلم: 1645، سنن ابوداؤد: 3323)

نذر کا کفارہ قسم والا کفارہ ہے۔

چنانچہ جو شخص مقررہ نذر بھول جائے تو اسے نذر کا کفارہ ادا کرنا چاہیے اور نذر کا کفارہ قسم کا کفارہ ہی ہے، جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ دس مساکین کو درمیانے درجہ کا کھانا کھلانا یا دس مسکینوں کو کپڑے پہنانا یا گردن آزاد کرنا۔ اگر ان تینوں کاموں میں سے کسی کی طاقت نہ ہو تو تین دن کے روزے رکھنا۔ (المائدہ: 89)

بذا ما عندي والله اعلم بالصواب

فتاویٰ علمائے

حدیث

جلد 2 کتاب الصلوٰۃ



محدث فتویٰ لمیٹی